



بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر کام کو اچھے طریقے سے کرنا ضروری قرار دیا ہے

شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ دو باتیں ہیں، جن کو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے آپ نے فرمایا: "بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر کام کو اچھے طریقے سے کرنا ضروری قرار دیا ہے لہذا جب تم قتل کرو تو اچھے طریقے سے قتل کرو اور جب (جانور) ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو لہذا تم میں سے جو شخص (جانور ذبح کرنا چاہتا ہو اسے چاہیے کہ) اپنی چھری کو خوب تیز کر لے اور ذبح کیے جانے والے جانور کو آرام پہنچائے"

[صحیح] [رواہ مسلم]

اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر تمام چیزوں میں احسان فرض کیا ہے جب کہ احسان کا مطلب ہے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا دھیان اپنے ذہن میں رکھنا اس کی عبادت کرتے وقت اور بھلائی کرتے وقت اور لوگوں کی تکلیف دور کرتے وقت قتل اور ذبح کرتے وقت احسان کرنا بھی اس میں داخل ہے کسی کو بطور قصاص قتل کرتے وقت احسان ہے کہ قتل کا سب سے آسان، سب سے ہلکا اور سب سے تیز طریقہ اختیار کیا جائے جب کہ ذبح کرتے وقت احسان ہے کہ جانور پر رحم کرتے ہوئے ہتھیار کو تیز کر لیا جائے، ہتھیار کو ذبح کی نظروں کے سامنے تیز نہ کیا جائے اور ایک جانور کے سامنے دوسرا جانور ذبح نہ کیا جائے

<https://sunnah.global/hadeeth/ur/show/4319>



النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

